

ROOTWORDS OF SURAH SAFFAT 1-74

فَالزَّاجِرَاتِ	زَجْرًا	فَالتَّالِيَاتِ	مَارِدٍ	يُقَذَّفُونَ
ز ج ر	ز ج ر	ت ل و	م ر د	ق ذ ف
پھر ڈانٹنے والیوں کی	جھڑک کر / سخت ڈانٹ	پھر تلاوت کرنے والیوں کی	سرکش	وہ پھینکے جاتے ہیں
نُحُورًا	وَاصِبٌ	الْخُطْفَةِ	ثَاقِبٌ	فَاسْتَفْتِهِمْ
د ح ر	و ص ب	خ ط ف	ث ق ب	ف ت ی
بھگانے کو	مسل / ہمیشہ کا	اچک لے جائے	چمکتا ہوا / دکھتا ہوا	پس اُن سے پوچھیے
لَا زِبٍ	يَسْتَسْخِرُونَ	دَاخِرُونَ	زَجْرَةٌ	لَتَارِكُو
ل ز ب	س خ ر	د خ ر	ز ج ر	ت ر ك
چکنی / لیسدار	وہ مذاق اڑاتے ہیں	ذلیل ہونے والے	ڈانٹ / زور کی آواز	البتہ ترک کر دیں
بِكَاسٍ	غَوْلٌ	يُنْزِفُونَ	قَاصِرَاتٍ	الطَّرْفِ
ك ا س	غ و ل	ن ز ف	ق ص ر	ط ر ف
جام	دروِ سر	نشہ ہوگا / بہکی باتیں	نیچی کرنے والیاں	نگاہوں کو
عَيْنٌ	بَيضٌ	مَكْنُونٌ	لَمَدِينُونَ	مُطْلِعُونَ
ع ی ن	ب ی ض	ك ن ن	د ی ن	ط ل ع
بڑی آنکھوں والی	سفید	چھپائے ہوئے	بدلہ دے جانے والے ہیں	اطلاع پانے والے ہو

كِدَتْ	لَتُرْدِينَ	طَلَعَهَا	رُعُوسُ	فَمَالِنُونَ
ك و د	ر د ي	ط ل ع	ر ا س	م ل ا
قريب تھا	کہ مجھے ہلاک ہی کر دے	خوشے اس کے	سر	پس بھرنے والے ہیں
البُطُونُ	لَشَوْبًا	حَمِيمٍ	أَلْفَوْا	يُهْرَعُونَ
ب ط ن	ش و ب	ح م م	ل ف و	ہ ر ع
پیٹ	ملاوٹ	کھولتا پانی	پایا	دوڑتے چلے گئے